

## صحت بخش کھانے سے متعلق معلوماتی پوسٹر: غذائی خدمات کے آپریٹرز کے جاننے لائق باتیں

سائٹ پر کھانے لائق غذا فروخت کرنے والے غذائی خدمت کے اداروں پر گاہکوں کے لیے دیکھنے کے لیے صحت بخش کھانے سے متعلق معلوماتی پوسٹر ڈسپلے کرنا لازم ہے۔ یہ دستاویز اس تقاضے پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔

کن ریستورانوں سے پوسٹر ڈسپلے کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے؟  
وہ تمام ریستوراں جو سائٹ پر کھانے لائق غذا فروخت کرتے ہیں۔


مجھے یہ پوسٹر کہاں مل سکتا ہے؟  
اس دستاویز کے ساتھ، نیو یارک سٹی کا محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت (NYC محکمہ صحت) نے انگریزی اور ہسپانوی میں وہ پوسٹر ریستوراں کو میل کر دیے ہیں۔ یہ پوسٹر متعدد زبانوں میں حاصل کرنے کے لیے، 311 پر کال کریں، یا [nyc.gov/health](http://nyc.gov/health) ملاحظہ کریں اور **required signs** (مطلوبہ نشانات) تلاش کریں۔

مجھے وہ پوسٹر کہاں لٹکانا چاہیے؟  
وہ پوسٹر لازمی طور پر آپ کے ریستوراں میں وہاں لگایا جائے جہاں گاہک اسے آسانی سے دیکھ سکیں۔

NYC محکمہ صحت اس تقاضے کو کس طرح نافذ کرے گا؟  
NYC محکمہ صحت معائنوں کے دوران یہ تقاضا لاگو کرے گا۔ 1 جنوری 2022 سے، جو ریستوراں حسب تقاضا پوسٹر ڈسپلے نہیں کرتے ہیں ان پر \$200 جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔

کیا پوسٹر ڈسپلے کرنے میں ناکامی کو ریستوراں کے حرفی گریڈ کے ضمن میں شمار کیا جائے گا؟  
نہیں، پوسٹر ڈسپلے کرنے میں ناکامی کو ریستوراں کے حرفی گریڈ کے ضمن میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

اگر میرے سوالات ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟  
NYC محکمہ صحت کے دفتر برائے غذائی تحفظ سے [infobfscs@health.nyc.gov](mailto:infobfscs@health.nyc.gov) پر رابطہ کریں۔

Español | Русский | 繁體中文 | 简体中文 | Kreyòl ayisyen | 한국어 | বাংলা | Polski   
العربية | Français | اردو

[nyc.gov/health](http://nyc.gov/health) 

**required signs** (مطلوبہ نشانات) 